

اس لئے یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد ایک چھوٹی سی مسجد سے دارالعلوم حقانیہ کا کام شروع ہوا تھا۔ ہاں یہ درست ہے کہ دارالعلوم حقانیہ نے ترقی کی منزلیں قیام پاکستان کے بعد ہی کامیابی کے ساتھ طے کی ہیں۔ یہ چند سطریں ضروری سمجھ کر عرض کر دیں۔ تاکہ آنے والے مورخ دارالعلوم حقانیہ کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔

(انقلابی مجاہد آزادی خان غازی کابلی احراری کوچہ رحمان دہلی)

آہ قاری محمد طیب قاسمی | دل چاہتا ہے کہ زار و قطار روئے اور آنکھیں قطرہ ہائے آب کے بجائے قطرہ ہائے خون بہائے۔ لیکن رضا بالقضاء کا معاملہ۔ درہم اگر حضرت حکیم الاسلام مخدوم زمین خاندان قاسمی کے چشم و چراغ کی زندگی اگر ایک کروڑ آدمیوں پر پھیل جاتی تو سودا ارنال ہوتا۔ کیونکہ حضرت کا وجود مسعود مسلمانان عالم بالخصوص وابستگان دیوبند کے لئے سایہ عاطفت تھی۔

ریڈیو نیپریہ روح فرسا خبر سن کر زبان پر نکلا۔ آہ عالم اسلام ویران ہو گیا۔ حضرت کی خدمات جلیلہ کو اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں نہ بلکہ ہزاروں افراد پر مشتمل ادارہ جس کام کو سرانجام کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک فرد نے انجام دیا۔ تمام عمر حسبہ اللہ دین کا کام کرتے رہے۔ اور آخر میں جب اتحاد وحدت کی خاطر اپنے خون پسینہ سے پہنچی ہوئی گلستان دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کی قربانی کی نوبت آئی تو آپ نے اس قربانی سے بھی دریغ نہ کیا۔ حضرت قاری صاحب اسلاف کا نمونہ اور اخلاف کی محبت تھے۔ آپ کی تقریرات و تحریرات میں فلسفیانہ انداز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ عمر میں ایک بار ماوراء علمی دارالعلوم حقانیہ میں آپ سے شرف ملاقات نصیب ہوئی تھی۔ مزید برآں حضرت استاد محترم مولانا سمیع الحق صاحب کے اپنے شاگردوں پر شفقت کی بنا پر آپ نے شمال ترمذی حضرت قاری صاحب سے شروع کر دئی۔ اوریوں حضرت قاری صاحب اس بابرکت موقع پر راقم آٹم کے بلا واسطہ شیوخ میں شامل ہو گئے۔ راقم کو اس بات پر فخر ہے۔

اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ کو درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ آمین (قاصد فی فضل اللہ جان حقانی لاہور)

☆ یہ ہوشیار خیرین کہ پورا عالم اسلام سوگوار و غمزدہ ہوا۔ کہ تکلم اسلام یادگار اسلاف حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ اس دارقانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی دینی مذہبی قلمی خدمات ان کی یاد رہیں گی۔ مدرسہ کی ترقی و مقبولیت میں ان کا وافر حصہ ہے دعا ہے کہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ پوری جماعت شریکِ نعم ہے۔

محمد عبدالشکور دین پوری۔ خانیپور۔ صدر مجلس تحفظ حقوق السنن پاکستان

☆ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی وفات کی خیر سن کہ اذ حد افسوس ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جامعہ عربیہ تبلیغ الاسلام حبیب پور موٹی مسجد میا نوالی میں صبح فجر کی نماز کے بعد ایصال